



سوال

تیجانی و قادری سلسلوں کے وظائف کا حکم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تیجانی اور قادری سلسلہ کے وظائف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جو شخص مرتے دم تک اس طریقہ پر قائم رہا ہو اس کا کیا حکم ہے کیا ہم ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اور کیا اس کے مرنے پر اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سلسلہ تیجانیہ اور سلسلہ قادریہ کے اوراد و وظائف مشرکانہ بدعات و خرافات سے خالی نہیں، مثلاً ان میں غیر اللہ سے فریاد پائی جاتی ہے اور ایسے اذکار پائے جاتے ہیں جو قرآن میں موجود نہیں اور نہ صحیح احادیث شیعویہ سے ثابت ہیں۔ لہذا ثواب کی نیت سے ایسے وظیفے پڑھنا جائز نہیں اور جو شخص ایسے ورد و وظیفے کرتا رہا ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں اور جب یہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا بھی درست نہیں۔ ہم اس کے ظاہر حال کے مطابق عمل کریں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیونکہ رازوں اور پوشیدہ باتوں کا علم اسی کو ہے۔

حدا ما عنہی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ دارالسلام

ج 1

محدث فتویٰ